

برائے فوری اجراء

ڈیلوٹ (Deloitte) نے کونسل کی جانب سے منظور شدہ الزامات کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں

برامپٹن، آن (29 ستمبر 2021) – خومختار تفتیش کار اور فرانزک اڈیٹر ڈیلوٹ نے انتظامی معاملات، بشمول ذاتی طرز عمل کے حوالے سے، 22 اپریل 2021 کو برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے موصول ہونے والے الزامات کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔

ان الزامات کا جائزہ لینے کے علاوہ سٹی کونسل نے ڈیلوٹ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ ایک گمنام پورٹل کھولیں تاکہ ان ملازمین اور رہائشیوں کو موقع فراہم کیا جا سکے جو سٹی کے دفتری امور یا اہلکاروں سے متعلق کسی بھی قسم کے معاملے کی اطلاع دینا چاہتے ہوں۔

ڈیلوٹ کی جامع تحقیقات کے بعد اس کے ملازمین اور فریقین ثالث فروخت کنندگان کی جانب سے کسی غیر قانونی سرگرمی یا امتیازی رویے کے حوالے سے کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

ڈیلوٹ کو موصول ہونے والے عوامی الزامات کے حوالے سے رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ کارپوریٹ پالیسیوں پر ڈائریکٹر کی سطح پر سٹی کی پالیسیوں اور عمومی نوعیت کے دفتری طریقہ کار کی انتظامی عدم تعمیل کی دو مثالوں کے علاوہ دیگر تمام امور میں معیاری طریقہ کار اور ضوابط پر عمل درآمد ہوتا ہے، ایک موجودہ کاموں کی توسیع کے لیے مکمل محدود ٹینڈرنگ فارم کے حوالے سے کچھ کوتاہیاں سامنے آئی ہیں اور دوسرا محدود ٹینڈرنگ فارم کے بارے میں عدم تعمیل کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس وقت مالیاتی عمل کے مختلف پہلوؤں کو خودکار بنانے کے لیے سٹی کی کوششیں جاری ہیں، جس کا مقصد دستاویزات کے حوالے سے تعمیل کے خطرات میں کمی لانا ہے۔

کونسل کی ہدایت پر تحقیقات کرنے کے چھ شعبوں میں سے ہر ایک کے حوالے سے ڈیلوٹ کے نتائج کا خلاصہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

1. خدمات کے حصول (باٹرننگ) کا طریقہ کار

ڈیلوٹ نے خدمات کے نامناسب طور پر حصول کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کیں، جو جائزہ لینے پر ثابت نہیں ہوئے یا مزید تحقیقات کے لئے کافی تفصیلات حاصل نہیں ہو سکیں۔

2. سرکاری خریداری (پروکیورمنٹ) کے مسائل

ڈیلوٹ کے ذریعے تحقیقات کیے گئے چھ معاہدوں (کنٹریکٹس) میں سے چار میں خریداری کے ضمنی قوانین اور معیاری دفتری طریقہ کار کی تعمیل ہوئی ہے۔ ڈیلوٹ نے موجودہ کاموں کی توسیع کے حوالے سے مکمل محدود ٹینڈرنگ فارم میں کوتاہیوں سے متعلق سٹی کی پالیسیوں اور معیاری دفتری طریقہ کار کی عدم تعمیل کی ایک مثال کی نشاندہی کی ہے اور دوسرا مسئلہ محدود ٹینڈرنگ فارم میں عدم تعمیل کی نشاندہی کے طور پر سامنے آیا ہے، جو دونوں ڈائریکٹر کی سطح پر سامنے آئے ہیں۔

3. امتیازی سلوک کے الزامات

امتیازی طرز عمل کے الزامات کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے یا ان کی مزید تحقیقات کے لیے درکار تفصیلات ناکافی پائی گئی ہیں۔

4. جائے کار پر غنڈہ گردی اور حراساں کرنا

تحقیقات کی تکمیل پر، اس حوالے سے سٹی کی پالیسیوں کی کسی قسم کی خلاف ورزیوں اور معیاری دفتری طریقہ کار کے الزامات کے حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا۔

5. معلومات کو ضائع کرنا

معلومات کو ضائع کرنے کے الزامات کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔

6. معیاری پالیسیوں اور طریقہ کار کی تعمیل

نامناسب معروضوں کے الزامات کا جائزہ لینے کے بعد، ڈیلونٹ نے معیاری دفتری طریقہ کار سے تجاوز اور نہ ہی پہلے سے موجود تعلقات کی بناء پر کسی قسم کے جانبداری کے واقعات کے ثبوتوں کی نشاندہی نہیں کی۔ ملازمین کی نامناسب ٹرانسفر کے حوالے سے عائد کردہ الزامات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈیلونٹ نے کسی بھی پالیسی کی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی۔

ان نتائج کی مزید تائید اونٹاریو کے محتسب اور پیل ریجنل پولیس کی جانب سے ان معاملات کے حوالے سے سابقہ جائزوں سے بھی ہوتی ہے۔

ان تحقیقات کی تکمیل میں مدد فراہم کرنے پر، سٹی تمام تعاون کنندگان، بشمول عملے اور فریقین ثالث کے فروخت کنندگان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

ڈیلونٹ کی رپورٹ، عوام الناس کے لیے سٹی کی [ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہے اور رپورٹ کے مواد کے حوالے سے سوالات کے لیے ڈیلونٹ سے رابطہ کیا جانا چاہیے۔

--30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca